

118098 - مسلمان عورت کی غیر مسلم مرد سے شادی باطل ہے اور اس سے وطئ زنا ہے

سوال

اگر کوئی مسلمان عورت کسی غیر مسلم مرد سے شادی کر لے تو دین اسلام کا موقف کیا ہے، اس لیے کہ اس عورت کی اس کی ضرورت تھی یعنی وہ ایسا کرنے پر مجبور تھی؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

کسی مسلمان عورت کا غیر مسلم مرد سے شادی کرنا جائز نہیں، اور یہ نکاح صحیح نہیں.

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

اور تم مشرکوں سے (اپنی عورتوں) کا نکاح اس وقت تک مت کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں البقرة (221).

اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اور اگر تمہیں علم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف مت لوٹاؤ، نہ تو وہ عورتیں ان کے لیے حلال ہیں، اور نہ ہی وہ کافر مرد ان عورتوں کے لیے حلال ہیں ﴿الممتحنة (10)﴾.

اور مسلمان عورت کو ایسا کرنے پر مجبور کرنا اس عورت کے لیے اس شادی پر راضی ہونا اور اس پر تیار ہو جانا جائز قرار نہیں دیتا.

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" اللہ خالق الملك کی معصیت و نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں ہے "

اور یہ نکاح باطل شمار ہو گا، اور اس سے وطئ زنا شمار ہو گا " انتہی.